



Nasirat Ijtima Syllabus Year: 2024-2025

FOR AGES 7-9

Nasirah **MUST** participate in Tilawat & Salat competition, in order to participate in any other competition.

Only those Nāsirāt who have paid their membership and Ijtimā Chanda can take part in the Regional Ijtimā competitions.

COMPETITION	SYLLABUS	NOTES
Tilawat-e-Quran	Chapter 109: Surah Al-Kafirun (Verses 1-7) with English, Urdu OR French Translation	<ul style="list-style-type: none"> • Melodic recitation with correct pronunciation • Memorization is NOT required • MANDATORY PARTICIPATION
Hifz-e-Quran	Chapter 2: Surah Al-Baqarah Verse 1-8 with English, Urdu OR French Translation	<ul style="list-style-type: none"> • Memorization with correct pronunciation • Melody NOT required
Salat/Namaz	Memorize the complete Nazira Namaz (Arabic Only)	<ul style="list-style-type: none"> • Memorization is MANDATORY • MANDATORY PARTICIPATION
English Speech	<ol style="list-style-type: none"> 1. “O my Lord, increase me in knowledge” 2. Quranic teachings about Truthfulness 3. The Importance & Blessings of Khilafat 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-3 Minutes • Time starts after Attashahud • There will be a 15-second grace period. If you're 15 seconds over or under the limit, no marks will be lost • <u>Memorization is required at Regional and National level NOT Local</u>

COMPETITION	SYLLABUS	NOTES
Urdu Speech	<p>1. آحضرتؐ كابتكول ٲر شفقت</p> <p>2. سرت حضرت عمر فاروقؓ</p> <p>3. الصلوة مغرآج المؤمن</p> <p>نماز مومن كا روحانى عروج هے۔</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2-3 Minutes • Time starts after Attashahud • There will be a 15-second grace period. If you're 15 seconds over or under the limit, no marks will be lost • <u>Memorization is required at Regional and National level</u> <u>NOT Local</u>
French Speech	<p>1. Al-Mujid - The Listener</p> <p>2. Blessings of Reading the Holy Quran daily</p> <p>3. Life of Hazrat Abu Bakr Siddique (ra)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2-3 minutes • time starts after Attashahud • There will be a 15-second grace period. If you're 15 seconds over or under the limit, no marks will be lost • <u>Memorization is required at Regional and National level</u> <u>NOT Local</u>
Nazm	<p>1. Khuda se Wohi Log Karte Hain Pyaar (Dur-e-Sameen)</p> <p>2. Hamd-o-Sanaa usi Ko (Dur-e-Sameen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Choose one nazm out of the 2 nazms, do NOT repeat verses • Memorization is required at Regional and National level
Bait Ba'azi	<p>Memorization & Delivery of couplets from any of the following books:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dur-e-Samin, Kalam-e-Mahmood, Kalam-e-Tahir, Dur-e-Adan, Bukhar-e-Dil 	<ul style="list-style-type: none"> • Competition at Local Level ONLY

Tilawat-e-Quran (7-9)

Surah Al-Kafirun (1-7)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿١﴾
قُلْ یٰٓاَیُّهَا الْکٰفِرُوْنَ ﴿٢﴾ لَّا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٣﴾
وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ﴿٤﴾ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٥﴾
وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ﴿٦﴾ لَكُمْ دِیْنُکُمْ وِلِیِّ دِیْنِ ﴿٧﴾

English Translation:

1. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
2. Say 'O ye disbelievers!'
3. 'I worship not that which you worship;
4. 'Nor worship you what I worship.
5. 'And I am not going to worship that which you worship;
6. 'Nor will you worship what I worship
7. 'For you your religion, and for me my religion.'

French Translation:

1. Au nom d'Allah, le Gracieux, le Miséricordieux.
2. Dis: « Ô vous mécréants !
3. Je n'adorerai pas ce que vous adorez ;
4. Et ni vous êtes adorateurs de Ce Que j'adore
5. Et jamais je ne deviendrai adorateur de ce que vous avez adoré
6. Et vous ne deviendrez pas non plus adorateurs de Ce Que j'adore
7. A vous votre religion, et à moi ma religion. »

Urdu Translation:

1. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار حمد کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔
2. کہہ دے کہ اے کافرو!
3. میں اُس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔
4. اور نہ تم اُس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔
5. اور میں کبھی اُس کی عبادت کرنے والا نہیں بنوں گا جس کی تم نے عبادت کی ہے۔
6. اور نہ تم اُس کی عبادت کرنے والے بنو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔
7. تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین۔

Hifz-e-Quran (7-9)

Surah Al-Baqarah (1-8)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿١﴾ اَلَمْ ﴿٢﴾
ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَیْبَ ۗ فِیْهِ ۗ هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ ﴿٣﴾
الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ ﴿٤﴾
وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَیْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
یُوقِنُوْنَ ﴿٥﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٦﴾
اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَیْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾
خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلَی سَمْعِهِمْ ۗ وَعَلَیْ اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۗ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِیْمٌ ﴿٨﴾

1. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful

2. Alif Lam Mim

3. This is a perfect Book; there is no doubt in it; it is a guidance for the righteous

4. Who believe in the unseen and observe Prayer, and spend out of what We have provided for them

5. And who believe in that which have been revealed to thee, and that which was revealed before thee, and they have firm faith in what is yet to come

6. It is they who follow the guidance of their Lord and it is they who shall prosper

7. Those who have disbelieved - it being equal whether thou warn them or warn them not - they will not believe

8. Allah has set a seal on their hearts and their eyes, and over their eyes is a covering; and for them is a great punishment

Hifz-e-Quran (7-9)

French Translation:

1. Au nom d'Allāh, le Graceux, le Miséricordieux
2. Alif Lām Mīm
3. Ceci est le Livre parfait, dans lequel il n'y a pas de doute. C'est une direction pour les gens pieux
4. Qui croient à l'invisible, qui observant la Prière, et qui dépensent de ces dons et richesses que Nous leur avons accordés;
5. Et qui croient à ce qui t'a été révélé avant ton avènement, et qui croient fermement à ce qui est encore à venir
6. Ceux-là suivent la voie indiquée par leur Seigneur et ce sont eux qui prospéreront
7. Quant à ceux qui n'ont pas cru - cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas - ils ne croiront pas
8. Allāh a scellé leur cœur et leurs oreilles; ils ont un voile sur les yeux. Et pour eux il y a un très grand châtement

Urdu Translation:

- 1 اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار حم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔
- 2 اِنَّا اللّٰهُ اَعْلَمُ: میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔
- 3 یہ ”وہ“ کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو۔
- 4 جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
- 5 اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اُتارا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اُتارا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
- 6 یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔
- 7 یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا (اس حال میں کہ) برابر ہے اُن پر خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
- 8 اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی شنوائی پر بھی۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور ان کے لئے بڑا عذاب (مقدر) ہے۔

Nazm (7-9)

Khuda Se Wohi Log Karte Hain Pyar (Dur-e-Sameen)

خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اُس پر نثار
اِسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کے راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب
اُسے دے چکے مال و جاں بار بار ابھی خوف دل میں کہ ہیں نابکار
لگاتے ہیں دل اپنا اُس پاک سے وہی پاک جاتے ہیں اِس خاک سے

Khuda Se Wohi Log Karte Hain Pyar, Jo Sub Kuch hee Kartay Hain Uss Par Nisaar

Issi Fikar Main Rahtay Hain Roz-o-Shab, Kay Raazi Wo Dildaar Hota Hai Kab?

Ussay Day Chukkay Maal-o-Jaan Baar Baar, Abhi Khauf Dil Main Kay Hain NaaBakaar

Lagatay Hain Dil Apna Uss Pak Say, Wohi Pak Jatay Hain Iss Khaak Say

Humd-o-Sanaa (Dur e Sameen)

حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی ہمسر نہیں ہے اسکا کوئی نہ کوئی ثانی
باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہیں فانی غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہیں سب کہانی
سب غیر ہیں وہی ہے اک دل کا یار جانی دل میں مرے یہی ہے سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِي
ہے پاک پاک قدرت عظمت ہے اسکی عظمت لرزاں ہیں اہل قربت کروبیوں پہ بیت

Humd-o-Sanaa Ussi Ko Jo Zaat Jawedaani, Humsar Nahi Hay Uss Ka Koi Na koi Sani
Baqi Wohi Hamaisha, Ghair Uss Kay Sub Hain Faani, Ghairon Say Dil Lagana Jhooti Hay
Sub Kahani

Sub Ghair Hain Wohi Hai Ikk Dil Ka Yaar Jani, Dil Main Meray Yahi Hai Subhana Man Ya
Ranee

Hai Pak, Pak Qudrat Azmat Hai Uss ki Azmat, Larzaan Hain Ehle Qurbat, Karrobiyon Pay
Haibat